




پچھلے ایک ہزار برس میں تبدیلوں کی تلاش

1



4716CH01




نقشہ - 1

ماہر جغرافیہ الادریسی کے ذریعے
بارھویں صدی میں بنائے گئے دنیا کے
نقشے کا ایک حصہ جس میں بر صغیر
ہندوستان کو دکھایا گیا ہے۔

Cartographer
نقشہ بنانے والا نقشه نگار

نقشہ 1 اور 2 کو غور سے دیکھیے۔ نقشہ 1 کو ایک عرب جغرافیہ دال الادریسی نے 1154 عیسوی میں
بنایا تھا۔ جو علاقہ یہاں دکھایا گیا ہے وہ اس کے تیار کیے ہوئے دنیا کے بڑے نقشے کا ایک حصہ ہے جس
میں بر صغیر ہندوستان کو تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ نقشہ 2 ایک فرانسیسی نقشہ نگار نے 1720 کے
دہے میں تیار کیا تھا۔ یہ دونوں نقشے ایک ہی علاقے کے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بالکل
مختلف ہیں۔ الادریسی کے نقشے میں جنوبی ہندوستان اس جگہ دکھایا گیا ہے جہاں ہم شمالی ہندوستان
کو تلاش کرنے کی توقع کر سکتے تھے اور سری لنکا کا جزیرہ بالکل اوپر نظر آتا ہے۔ جگہوں کے نام عربی



۲

ر صغیر۔ اٹھارہویں صدی کے ابتدائی حصے

میں تیار ہوئے اٹلس نو ویاوف گلامے ڈی۔

(Atlas Nouveau

of Guillaume de l'Isle.

میں دیے گئے ہیں اور ان میں کچھ کافی جانے پہچانے نام بھی، جیسے اتر پردیش میں کونج (جنے عربی میں قتوں لکھا گیا ہے) نظر آتے ہیں۔ نقشہ 2 نقشہ 1 سے تقریباً 600 سال بعد بنایا گیا تھا۔ اس دوران بر صیر کے بارے میں معلومات کافی بدل چکی تھیں۔ یہ نقشہ ہمیں آج بہت جانا پہچانا لگتا ہے۔ اور سماجی علاقوں کی تفصیل کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ نقشہ یوروپی جہاز را اور تاجر اپنے لمبے سمندری سفر میں استعمال کیا کرتے تھے۔ (اب 6 دیکھیے)

نقشہ 2 میں برصغیر کے بالکل اندر کے علاقوں کو نگرانے دیکھئے۔ کپایہ اتنے ہی تفصیلی ہیں جتنے ساحلی علاقوں میں ہیں؟ ذرا دریائے گنگا کے راستے پر زنگاہ ڈالیے اور دیکھئے کہ اسے کسے دھایا گیا ہے؟ آپ کے خیال میں اس نقشے میں ساحلی علاقوں اور ملک کے اندر وہی علاقوں کی تفصیل میں اور ان کے پھیک جگہ پر دکھائے جانے کے معابر میں فرق کیوں ہے؟

اس فرق کی اتنی ہی اہم وجہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں زمانوں میں نقشه نگاری (Cartography) کی سائنس میں بھی فرق تھا۔ جب مورخ پچھلے زمانوں کی دستاویزوں، نقشوں اور تحریروں یا متنوں کو پڑھتے ہیں تو انھیں ان زمانوں کے بدلتے ہوئے تاریخی محول کا بھی اچھی طرح احساس ہوتا ہے۔ یعنی وہ سیاق جس میں پچھلے زمانے کے بارے میں وہ معلومات حاصل کی گئی تھیں۔

نئی اور پرانی اصطلاحات

اگر وہ سیاق جس میں معلومات پیش کی گئی ہیں وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے تو زبان اور اس کے معنی کا کیا حال ہوتا ہے؟ تاریخی ریکارڈ تو مختلف زبانوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ زبانیں ایک زمانے کے بعد بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر عہد و سلطی کی فارسی آج کے دور کی فارسی سے مختلف ہے۔ یہ فرق صرف گرامر اور ذخیرہ الفاظ سے ہی تعلق نہیں رکھتا بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لفظوں کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر ”ہندوستان“ کی اصطلاح لیجیے۔ آج ہم اسے ایک جدید قومی ملک ”انڈیا“ سمجھتے ہیں، مگر جب تیرھویں صدی کے فارسی و فرانسیز نگار (مورخ) منہاج سراج نے اس اصطلاح کو لکھا تو اس کا مطلب پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں، گنگا اور جمنا کے درمیانی حصوں سے تھا۔ اس نے اس اصطلاح کو دہلی کے سلطان کے قبضے میں جو علاقے تھے ان کی سیاسی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس اصطلاح میں شامل علاقے سلطنت کی توسعہ کے ساتھ بدلتے رہے مگر ان میں جنوبی ہندوستان کبھی شامل نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف سولھویں صدی کی ابتداء میں باہر نے ”ہندوستان“ لفظ کو پورے بر صیر کے جغرافیہ، بتابات، حیوانات، اور یہاں پر بستنے والوں کی تہذیب کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اسی باب میں بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کچھ اسی طرح کا استعمال تھا جس طرح چودھویں صدی کے شاعر امیر خسرو نے ”ہند“ کا کیا تھا۔ حالانکہ ”ہندوستان“ یعنی علاقے کی جغرافیائی اور اس کی تہذیبی شناخت کا تصور موجود تھا مگر ”ہندوستان“ کی اصطلاح سے وہ سیاسی یا قومی مطلب نہیں تھا جو آج سمجھاتا ہے۔

ای لیے آج کے موتحین کو استعمال کی جانے والی اصطلاحوں کے بارے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے زمانے میں ان کے مختلف معنی لیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک معمولی اصطلاح غیر ملکی (foreigner) کو لیجیے۔ آج کل اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہندوستانی

نہیں ہے۔ عہد و سلطی میں ہر وہ اجنبی غیر ملکی جانا جاتا تھا جو کسی خاص گاؤں میں نظر آجائے، یعنی کوئی ایسا شخص جو اس سماج یا تہذیب سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ (ہندی میں اس کے لیے پردیسی) اور فارسی میں اجنبی، کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی تھی) شہر میں رہنے والا کوئی شخص کسی جنگل باسی کو غیر ملکی سمجھ سکتا تھا مگر ایک ہی گاؤں میں رہنے والے دو کسان ایک دوسرے کے لیے غیر ملکی نہیں ہوتے تھے، خواہ ان کا نہ ہبی یا ذات پات کا پس منظر مختلف رہا ہو۔

مورخ اور ان کے مأخذ

مورخ ماضی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے مأخذ استعمال کرتے ہیں جن کا انحصار زیر مطابعہ زمانہ اور کھوج کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ سال آپ نے گپتا خاندان کے باڈشاہوں اور ہرش وردھن کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کتاب میں ہم آئندہ ایک ہزار سال یعنی لگ بھگ 700 سے 1750 تک کے بارے میں پڑھیں گے۔

اس دور کے مطالعے کے لیے مورخین نے جو مآخذ استعمال کیے ہیں ان میں آپ کو کچھ تسلسل نظر آئے گا۔ یہ لوگ اس دور کی معلومات کے لیے اب بھی سکون، کتبون، طرز تعمیر اور تحریری یا متن ریکارڈوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مگر اب اس تسلسل میں خاص افرق آ گیا ہے۔ اب اس دور کے متن ریکارڈوں کی قسموں اور تعداد میں ڈرامائی انداز سے اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ دوسری طرح کی موجودہ معلومات کی جگہ لینی شروع کر دی۔ اس دوران کا غذائی نسبتاً ستاہ و آسانی سے ملنے لگا۔ لوگوں نے اسے مقدس تحریروں، حکمرانوں کے واقعات، صوفی سنتوں کے خطوط اور ان کی

کاغذ کی قدر

نیچے دیے ہوئے دو بیانات کا مقابلہ کیجیے۔

- (1) تیرھویں صدی کے درمیانی حصے میں کوئی عالم ایک کتاب نقل کرنا چاہتا تھا۔ مگر اس کے لیے اس کے پاس کافی کاغذ نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک پرانے مخطوطے (ہاتھ کی لکھی تحریر) کو جسے وہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، پہلے دھویا، کاغذ کو سکھایا اور پھر اسے استعمال کیا۔
- (2) ایک صدی کے بعد، اگر آپ کسی بازار میں کچھ کھانے کی چیز خریدتے ہیں تو آپ وہ خوش نصیب بھی ہو سکتے ہیں جسے دکان دار وہ چیز کاغذ میں لپیٹ کر دیتا ہے۔

کاغذ کب زیادہ مہنگا تھا اور آسانی سے مل جاتا تھا۔ تیرھویں یا چودھویں صدی میں؟



Archive آرکائیو

وہ جگہ جہاں دستاویزیں اور مخطوطے رکھے جاتے ہیں۔ آج مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے آرکائیوں ہیں جہاں یہ اپنے پرانے دفتری ریکارڈ اور لین دین کے کاغذات رکھتی ہیں۔


تعلیمات، درخواستیں اور عدالتی کا روایوں کو لکھنے اور حساب کتاب اور ٹیکسوس کے اندر اج کے لیے استعمال کیا۔ مخطوطے ریسوس، حکمرانوں، خانقاہوں اور مندوں کے ذریعے جمع کیے جاتے تھے۔ انھیں لا بسیریوں اور آرکائیزوں میں رکھا گیا ہے۔ یہ مخطوطے اور قلمی دستاویزیں مورخین کو بہت تفصیلی اطلاعات فراہم کرتے ہیں مگر ان کا استعمال مشکل بھی ہے۔

اس زمانے میں چھاپا خانہ نہیں تھا اس لیے کاتب، ہاتھ سے مسودوں کو نقل کرتے تھے۔ اگر آپ نے کبھی کسی دوست کا گھر کا کام (Home work)، نقل کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنے دوست کا لکھا پڑھنہیں سکتے اور پھر آپ مجبوراً اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ نتیجتاً آپ کے دوست کے کام اور آپ کی نقل میں چھوٹے مگر بڑے اہم فرق نظر آتے ہیں۔ کچھ اسی طرح مسودوں کو نقل کرنا بھی ہے۔ جب کاتب ان مسودوں کو نقل کرتے تھے تو ان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر دیتے تھے۔ کوئی لفظ یہاں، کوئی جملہ وہاں۔ صد یوں تک برابر نقل ہونے والے یہ چھوٹے چھوٹے فرق اتنے بڑھ گئے کہ ایک ہی متن کی مختلف نقلیں

شکل 1

ایک کاتب کی قلمی تصویر (پینگ) جس میں اسے ایک مسودہ نقل کرتے دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر کا سائز صرف 7.1×10.5 سینٹی میٹر ہے۔ اپنے سائز کی وجہ سے اسے چھوٹی مختصر تصویر کہا جاتا ہے۔ چھوٹی تصویریں کبھی کبھی متلوں کی وضاحت کرنے کے لیے بھی بنائی جاتی تھیں۔ یہ اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ جمع کرنے والے بعد میں انھیں مسودوں سے الگ کر کے صرف چھوٹی تصویریں ہی بنجاتے تھے۔





ایک دوسرے سے کافی مختلف ہو گئیں۔

یہ کافی اہم مسئلہ ہے کیوں کہ آج ہمیں مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا اصل مسودہ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ ہمیں پورے طور پر بعد میں کتابوں کے نقل کیے ہوئے مسودوں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً مورخوں کو ایک ہی متن کی مختلف نقلوں کو پڑھنا پڑتا ہے تاکہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ مصنف نے کیا لکھا ہوگا۔

کبھی کبھی خود مصنف اپنے ہی لکھے واقعات کو مختلف وقتوں میں دہراتے تھے۔ چودھویں صدی کے وقائع نگار اور مورخ ضیاء الدین برلنی نے سب سے پہلے 1356 میں وقائع لکھے پھر ان کا دوسرا روپ دو سال بعد لکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر مورخوں کو اس کے پہلے روپ کا 1960 کے دہے تک پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ لابیریری میں جمع کتابوں کے ایک بہت بڑے ذخیرے میں لاپتہ رہا۔

نئے سماجی اور سیاسی گروہ

700 سے 1750 تک کے دوران ہزار سال کا مطالعہ مورخوں کے لیے ایک زبردست چینچ ہے۔ خاص طور پر اس لیے کہ اس زمانے میں مختلف قسم کی مختلف پیانوں پر بڑی ترقیاں رونما ہوئیں۔ اس زمانے میں الگ الگ موقعوں پر نئی نئی مکنائوں جیسے زراعت میں رہٹ، بُنے


شکل-2

مختلف طرح کی تحریر فارسی اور عربی کو پڑھنے میں ایک اور دقت پیدا کرتی ہیں۔ نقعيق طرز تحریر (دائیں) کھلے کھلے حروف والا (cursiv) ہے اور پڑھنے میں آسان ہے جبکہ خط شکستہ (بائیں طرف) گنجک ہے اور پڑھنے میں زیادہ مشکل ہے۔

کے لیے چرخہ اور لڑائی میں بارودی ہتھیار۔ بر صغیر میں نئے کھانے اور مشروبات (پینے کی چیزیں) جیسے آلو، مکانی، مرچیں، چائے اور کافی وغیرہ وجود میں آئیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تمام ایجادات، نئی طیکنا لو جیاں اور فصلیں لوگوں کے ساتھ داخل ہوئیں جو اپنے ساتھ اپنے دوسرے خیالات بھی لائے۔ اس کے نتیجے میں یہ زمانہ معاشی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کا بھی تھا۔ آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں کچھ بتائیں باب 5، 6 اور 7 میں پڑھیں گے۔

اس زمانے میں لوگوں کی نقل و حرکت بھی بہت تھی۔ اچھے موقع کی تلاش میں لوگ ٹولیوں میں دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ پورے بر صغیر میں زبردست دولت موجود تھی اور لوگوں کے پاس اس دولت میں سے کچھ حاصل کر لینے کے امکانات بھی تھے۔ اس زمانے میں ایک گروہ، جس نے اہمیت اختیار کی، راجپوتوں کا تھا۔ یہ نام 'راجا پتر' یعنی 'ہادشاہ کا بیٹا' سے بنایا ہے۔ آٹھویں سے چودھویں صدی تک کے زمانے میں یہ اصطلاح عام طور پر جنگو قوم کے لوگوں کے ایک گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ جو ذات پات کے اعتبار سے خود کو کھتری بتاتے تھے۔ اس اصطلاح میں صرف حکمران اور سردار، ہی شامل نہیں تھے بلکہ وہ سپہی اور سپہ سالار یا کمانڈر بھی انھیں میں گئے جاتے تھے جو پورے

شکل 3
رہٹ (پشین وحیل)



برصیر میں پھیلی شخصی حکومتوں کی فوجوں میں خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک سورمانی انداز یا رکھر کھاؤ، زبردست بہادرانہ طریقہ اور انہائی وفاداری کا احساس ایسی خصوصیات تھیں جن کا ذکر شاعر اور بحاثت یا گوئے راجپوتوں کے لیے اپنے شعروں اور گیتوں میں کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے دوسرا گروہ بھی جیسے مراثا، سکھ، جات، اہوم اور کاسنخ (کاتموں، لکھنے والوں اور منشیوں یا کلکرکوں کی ذات) اس دور میں خود کو سیاسی طور پر اہم رکھنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔

اس پورے عرصے میں جنگلوں کی رفتہ رفتہ کٹائی اور زراعت میں توسعہ جاری رہی۔ یہ تبدیلی دوسرے خطوں کے مقابلے میں کچھ علاقوں میں زیادہ تیز تھی۔ اپنے مسکنوں، (بستیوں Habitat) میں تبدیلی آنے کی وجہ سے بہت سے جنگل بائیوں کو وہاں سے بھرت کرنی پڑی۔ دوسروں نے زمین جوتنا شروع کیا اور وہ کسان ہو گئے۔ ان نئے کسانی گروہوں پر رفتہ رفتہ علاقائی بازاروں، سرداروں، پچاریوں، خانقاہوں اور مندوں کا اثر پڑنا شروع ہوا۔ یہ گروہ بڑے اور کچھ پچیدہ سماجوں کے حصے بن گئے اور اب انھیں وہاں کے محصول اور مقامی مالکوں کو سامان اور اپنی خدمات پیش کرنی پڑیں۔ اس کے نتیجے میں خود کسانوں میں کافی اہم قسم کے سماجی اور معاشی فرق یا امتیاز ابھرنے شروع ہوئے۔ کچھ کے پاس زیادہ پیداواری زمین تھی۔ کچھ لوگ مویشی بھی رکھتے تھے، کچھ لوگوں نے دستکاری کے کام کو بھی، جوز راعت میں خالی وقتوں میں کی جاسکتی تھی، یعنی باڑی کے ساتھ جوڑ لیا۔ معاشرے میں جیسے جیسے اونچ نیچ اور فرق بڑھتا گیا لوگ جاتیوں، یا ذیلی ذاتوں کے زمروں میں بیٹتے گئے اور پھر انھیں پس منتظر اور پیشوں کے اعتبار سے الگ الگ درجنوں میں شارکیا جانے لگا۔ یہ درجہ مستقل طور پر قائم نہیں تھے۔ بلکہ اس ذات کے لوگوں کے پاس موجود طاقت، اثر و رسوخ اور ذرائع وسائل پر ان کے قبضے کی بنیاد پر بدلتے رہتے تھے۔ کسی ایک ہی ذات (Jati) کی حیثیت الگ الگ علاقوں میں مختلف ہو سکتی تھی۔

‘ذاتیں’ اپنے الگ قاعدے اور ضابطے بناتی تھیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے ممبروں کے طور پر یوں کا انتظام کرتی تھیں۔ یہ قاعدے اور ضابطے گروہ کے بزرگوں کی ایک ٹولی (اسمبلی) لاگو کرتی تھی، جسے کچھ علاقوں میں ‘جاتی پنچایت’ کہا جاتا تھا۔ لیکن ذاتوں کو اپنے گاؤں کے قاعدے قانون بھی مانتے ہوتے تھے۔ بہت سے گاؤں کی نگرانی یا انتظام ایک سردار کرتا تھا۔ یہ سب مل کر پوری حکومت کی صرف ایک چھوٹی اکائی ہوتے تھے۔

مسکن Habitat

کام مطلب ہوتا ہے کسی خط کا گرد و پیش
یا ماحول اور یہاں کے رہنے والوں کا
سماجی اور معاشی طرز زندگی۔




یہاں جو یک ناوجی سے متعلق، معاشی سماجی اور رہن سہن (کلچرل) تبدیلیاں بتائی گئی ہیں ان میں سے آپ کے گاؤں میں آنے والی تبدیلیوں میں کون سی سب سے اہم تھیں؟

خطہ اور سلطنت

بڑی بڑی سلطنتیں جیسے چول (باب 2)، تغلق (باب 3) اور مغل (باب 4) کئی بڑے بڑے خطوط میں قائم تھیں۔ سنسکرت زبان کی ایک پرشستی میں (پرشستی کے نمونے کے لیے دیکھیے باب 2) جو دہلی کے سلطان غیاث الدین بلبن (1266-1287) کی تعریف میں ہے، بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت وسیع و عریض سلطنت کا حکمران تھا جو مشرق میں بنگال (گودا) سے مغرب میں افغانستان کے غزنی (جمن) تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں تمام جنوبی ہندوستان (در اوڑ) شامل ہے۔ مختلف خطوط۔ گودا، آندھرا، کیرلا، کرناٹکا، مہاراشٹر اور گجرات کے لوگ بظہر اس کی فوجوں کے سامنے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مورخ اسے اس کا مبالغہ آمیز دعویٰ مانتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی

نقشہ 3

ایک مصری ماخذ شہاب الدین عمری کی کتاب، ممالک الابصار فی ممالک الامصار کے مطابق محمد تقیٰ کے زمانے میں دہلی سلطنت کے صوبے۔



xix	-کراچی	vii	-سوستانی
-xx	-اوڈھ	viii	-لکھنؤ
-xxi	-بہار	ix	-میان
-xxii	-کنگاندی	x	-کالانور
-xxiii	-کھنڈنی	xi	-لہور
-xxiv	-کرشناندی	xii	-سامانہ
	-کاواری ندی	xiii	
	-خیبر	xiv	
	-کشمیر	xv	
	-خیبر پختونخوا	xvi	
	-کنڈی	xvii	
	-کنڈی	xviii	
	-کنڈی	xix	
	-کنڈی	xx	
	-کنڈی	xxi	
	-کنڈی	xxii	
	-کنڈی	xxiii	
	-کنڈی	xxiv	

سبجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکمران بر صیر کے مختلف علاقوں پر اپنا قابو حاصل کر لینے کا دعویٰ کیوں کرتے رہتے تھے۔

زبان اور خطہ

1318 میں شاعر امیر خسرو نے لکھا تھا

کہ یہاں اس ملک میں ہر خطے کی ایک الگ زبان (سندهی، لاہوری، کشمیری، دوسرے ملکوں کی زبانی) تھی (آندھرا پردیش میں) گجراتی (گجرات میں) مباری (تامیل نادو میں) گوری (بنگال میں) اودھی (مشترقی یو بی میں) اور بہنڈوی (دہلی اور اس کے اطراف کے علاقوں میں) امیر خسرو نے آگے بیان کیا ہے کہ ان کے علاوہ سنکریت زبان تھی جو کسی خطے کی زبان نہیں تھی۔ یہ ایک پرانی زبان تھی اور عام لوگ اسرے نہیں جانتے ہیں، صرف بہمن جانتے ہیں۔

امیر خسرو کی بتائی ہوئی زبانوں کی ایک فہرست بنائیے۔ ایک اور فہرست بنائیے جس میں جن خطوں کا امیر خسرو نے ذکر کیا ہے وہاں آج بولی جانے والی زبانوں کو لکھیے۔ جو نام ایک سے ہیں ان کے نیچے لائن کھینچے اور جو مختلف ہیں ان کے چاروں طرف ایک دائرة بنائیے۔

کیا آپ نے دیکھا کہ اتنے عرصے میں ان بولی جانے والی زبانوں کے نام بدل گئے ہیں؟

700 عیسوی تک بہت سے ایسے خطے وجود میں آچکے تھے جن کی اپنی ممتاز جغرافیائی سمتیں، ان کی اپنی زبان تھی اور تہذیبی خصوصیات متعین ہو چکی تھیں۔ ان کے بارے میں آپ نویں باب میں زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا مخصوص حکمران خاندانوں سے رشتہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ ان حکومتوں کے درمیان اچھا خاصاً تناوُ اور جھگڑا بھی رہتا تھا۔ کبھی کبھی کچھ حکمران خاندان جیسے چول، خلنجی، اور مغل ایسی سلطنتیں بھی قائم کر لیتے تھے جو خطوں کا مجموعہ سلطنتیں، کئی مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان میں ساری سلطنتیں ایک جیسی مستحکم اور کامیاب نہیں تھیں۔ مثال کے طور پر باب 3 اور 4 میں جدول 1 کا مقابلہ کیجیے۔ خلنجی اور مغل خاندانوں کی حکومت کا کتنا عرصہ تھا؟

آپ کے خیال میں ہادشاہ ایسے دعوے کیوں کرتے تھے؟

کیا آپ کو یاد ہے کہ علم، سنکریت اور بہمنوں کے بارے میں امیر خسرو نے کیا کہا تھا؟

Patron
کوئی با اثر، دولت مند شخص جو کسی آرٹ،
دستکار، عالم یار یعنی زادے کی مدد کرتا ہے۔



معلوم کیجیے کہ آپ کی ریاست کیا اور کب تک خطوں کے اس مجموع کی حکومتوں کا حصہ رہی۔

جب اٹھارہویں صدی میں مغل سلطنت کنور ہوئی تو اس سے خطوں کی ریاستوں کے ابھرنے کا ایک بار پھر راستہ کھل گیا (باب 10) مگر مجموعہ خطوں پر ایک عرصے تک شاہی حکومت رہنے کے بعد خود ان خطوں کی خصوصیات میں تبدیلی آگئی۔ پورے برصغیر کے بڑے حصے میں ان خطوں کو، جنہوں نے ان پر حکومت کی تھی چھوٹی بڑی حکومتوں کا ایک ورشا حاصل ہوا تھا۔ یہ بہت سی ممتاز اور مشترکہ روایتوں کے پیدا ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ حکومت کے طریقے، معاشیات کا نظام، اونچے لوگوں کی تہذیب اور زبان، ان روایتوں کو ظاہر کرتی تھیں۔ 700 سے 1750 تک کے ایک ہزار سال کے عرصے میں مختلف خطوں کا کردار تنہائیں بنا۔ ان خطوں نے اپنے سے بڑے یعنی خطوں کے مجموعے، کی طاقت کا اثر جو تجھی کی طرف بڑھ رہی تھیں کو محسوس کیا مگر انہوں نے اپنی ممتاز خصوصیتوں کو بھی پوری طرح فراموش نہیں کیا۔

پرانے اور نئے مذاہب

جس ہزار سالہ تاریخ کی ہم کھو ج کر رہے ہیں اس زمانے میں بہت خاص مذہبی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں۔ کسی عظیم ذات پر لوگوں کا عقیدہ یوں تو بہت گہرا ذاتی معاملہ ہوتا تھا مگر زیادہ تر یہ اجتماعی روپ میں ہی ظاہر ہوتا تھا۔ کسی ما فوق الفطرت (عام مادی دنیا سے اوپر) طاقت کا اجتماعی تصور۔ یعنی مذہب زیادہ تر معاشروں کی مقامی، سماجی اور معاشی تنظیموں سے بڑا قریب کا رشتہ رکھتا تھا۔ جب ان گروہوں کی سماجی دنیا میں تبدیلی آتی تھی تو اس کے ساتھ ہی ان کے عقیدوں میں بھی تبدیلی آتی تھی۔

بھی وہ دور تھا جس میں آج ہم جس عقیدے کو ہندو مت کہتے ہیں، اس میں کچھ اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ان میں نئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا، شاہی خاندان کے لوگوں کا مندر بنانا، برہمنوں کی اہمیت میں متواتر اضافہ، پچاریوں کی حیثیت سے سوسائٹی میں ان کا ایک الگ ممتاز زمرہ یہ سب چیزیں شامل تھیں۔

سنکریت کے متنوں کا علم رکھنے کی وجہ سے سماج میں برہمنوں کو بہت عزت و احترام ملا، ان میں اس اعلا اور ممتاز حیثیت کو مستحکم کرنے میں ان کے سر پرستوں سے اور زیادہ مدد ملی۔ یہ مرتبی وہ نئے حکماء تھے جو حیثیت اور اقتدار کی نیاش میں تھے۔

اس دور کی اہم ترقیوں میں سے ایک بھلکتی تصویر کا وجود بھی تھا۔ اپنے پسندیدہ دیوی یاد دیوتا سے اس طرح محبت رکھنا یا اس کی عبادت کرنا جس میں اس کے پیروکار کسی پچاری یا اپنے تلنے مذہبی عملوں کو انجام دیے بغیر ممکن ہو سکے۔ آپ اس خیال اور دوسری روایتوں کے بارے میں باب 8 میں پڑھیں گے۔

اسی زمانے میں برصغیر میں کچھ نئے مذہب بھی داخل ہوئے۔ تاجر اور مہاجر سب سے پہلے ساتویں صدی میں ہندوستان میں قرآن شریف کی تعلیمات لے کر آئے۔ مسلمان قرآن کو اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں اور صرف ایک خدا کا غلبہ اور برتری مانتے ہیں۔ وہ اللہ جس کی محبت، رحم و کرم اور خوبی ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کو مانتا ہے۔ اس میں کسی کے سماجی پس منظر کا کوئی خل نہیں ہے۔

بہت سے حکمران اسلام کے عالموں، دینیات کے ماہروں اور قانون جاننے والوں کے مرتبی تھے۔ ہندو مت کی طرح اسلام کے پیروکاروں میں بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کا ایک شیعہ فرقہ تھا جو اعتقاد رکھتا تھا کہ پیغمبر حضرت محمدؐ کے داماد، حضرت علیؓ مسلمانوں کے صحیح رہنمائی تھے اور سنی مسلمانوں نے شروع کے رہنماؤں (خلفاء) کی برتری کو قبول کیا تھا اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کو مانتے تھے۔ مسلمانوں میں اسلامی قانون کے سلسلے میں بھی کچھ اہم فرق تھے (ہندوستان میں خاص طور پر حنفی اور شافعی مسک کے ماننے والے ہیں) فتنہ یاد دینیات اور صوفی طرز فکر میں بھی فرق نظر آتا ہے۔

وقت اور تاریخی دور کے بارے میں سوچنا

مورخ وقت کو گھنٹے اور دنوں یا سالوں کے گزرنے کی نظر سے نہیں دیکھتے جیسا کسی گھڑی یا کلینڈر میں ہوتا ہے۔ وقت ان سماجی اور معاشری تنظیموں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کون کون سے خیالات اور عقیدے باقی رہے یا تبدیل ہو گئے۔ اگر ہم گزرے زمانے یا مااضی کو کچھ ایسے بڑے بڑے ٹکڑوں یا وقوفوں میں بانٹ لیں جن کی خصوصیات مشترک ہوں تو وقت کا مطالعہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔

انیسویں صدی کے درمیانی حصے میں انگریز مورخوں نے ہندوستان کی تاریخ تین ادوار میں تقسیم کی تھی۔ ہندو، مسلم اور بُرطانوی۔ اس تقسیم کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ حکمرانوں کے مذہب میں فرق تاریخ میں تبدیلی کی اہم وجہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہ معاشیات، سماج اور تہذیب میں کوئی خاص تبدلیاں نہیں ہوتیں۔ اس تقسیم نے پورے برصغیر کی بیش قیمت رنگارنگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔

بہت کم مورخ اب وقت کی اس تقسیم کو مانتے ہیں۔ ماضی کے مختلف لمحوں کی اہم خصوصیات جاننے اور مقرر کرنے کے لیے زیادہ تر مورخ معاشری اور سماجی عناصر کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے جو تاریخیں پڑھیں ان میں شروع کے سماجوں کا ایک خاصاً طویل سلسلہ موجود تھا۔ شکاری، جنگل کی پیداوار جمع کرنے والے، ابتدائی کسان، قصبوں اور گاؤں کے باشندے، شروع کی بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہیں۔ جو تاریخیں آپ اس سال پڑھیں گے انھیں اکثر قرون وسطی (Medieval) کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کو اس میں کسانوں پر مشتمل سماج کی وسعت۔ علاقائی اور شہنشاہی حکومتوں کے قیام کے بڑھتے ہوئے رجحان، جو کبھی کبھی گلابانوں اور بن باسیوں کی قیمت چکا کر ابھرا، ہندو مت اور اسلام، دواہم مذہبوں کی توسعی و ترقی اور یوروپی تجارتی کمپنیوں کی آمد کے پارے میں زیادہ معلومات ملیں گے۔

ہندوستانی تاریخ کے ان ایک ہزار برسوں میں خاصی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بہرحال، سولھویں اور اٹھارہویں صدی، آٹھویں یا گیارہویں صدی سے بہت مختلف تھیں۔ اس لیے پورے ہزار سالہ وقفے کو ایک تاریخی اکائی کہنا، بہت سے مسئللوں سے خالی نہیں ہے۔ پھر قرون وسطی کا عام طور پر 'جدید' (Modern) دور سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ 'جدید' (Niyapin Modernity) ماذی اور ہنی ترقی کا تصور بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اس سے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرون وسطی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں ہوئی۔ مگر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔

ان ہزار سالوں میں برصغیر میں معاشری تبدیلیاں آئیں اور بہت سے علاقوں کی معاشری حالت خوشحالی کے اس درجے تک پہنچ گئی کہ اس نے یوروپی کمپنیوں کے مفادات کے لیے ایک کشش پیدا کر دی۔ آپ جیسے جیسے اس کتاب کو پڑھیں، ان تبدیلیوں کی نشانیوں کو دیکھنے اور تاریخی عمل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو پچھلے سال پڑھا تھا اس کا موازنہ اس کتاب سے کیجیے۔ رونما ہونے والی تبدیلیوں اور جو چیزیں قائم ہیں یا برابر چل رہی ہیں ان پر بھی نگاہ رکھیے اور اپنے چاروں طرف کی دنیا کو بھی دیکھیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کیا بدلا اور کیا باقی ہے۔



ذرا تصور کچے

آپ ایک موئرخ ہیں۔ اس باب میں دیے گئے موضوعات میں سے کسی ایک موضوع کو چینے، جیسے معاشری، سماجی یا سیاسی تاریخ، اور بحث کیجیے کہ اس موضوع کی تاریخ تلاش کرنا آپ کے خیال میں کیوں دلچسپ ہوگا۔

ذرا ماد کچے

- پچھے زمانے میں 'غیر ملکی' کے سمجھا جاتا تھا؟

بتائیے یہ صحیح ہے یا غلط؟

(a) ہمیں 700 عیسوی کے بعد لگتے نہیں ملتے۔

(b) مراٹھوں نے اس زمانے میں اپنی سیاسی اہمیت کو جتنا کی کوشش کی۔

(c) زراعتی بستیوں کے قیام اور توسعی کی وجہ سے کبھی کبھی جنگل کے باشندوں کو ان کی زمینوں سے باہر دھکیل دیا جاتا تھا۔

(d) سلطان غیاث الدین بلبن آسام، منی پور اور کشمیر پر حکومت کرتا تھا۔

خالی جگہوں کو بھریے رکھے.....

(a) آر کا یوز وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں..... جاتے ہیں۔

(b) چودھویں صدی کا..... مورخ تھا.....

(c)،،، اور کچھ نئی فصلیں تھیں جو بر صغیر میں اس دور میں شروع ہوئیں۔

اس دور سے تعلق رکھنے والی کچھ تکنیکی تبدیلیوں کی فہرست بنائیے۔

كتاب الفاتحة

قلم زن

14

حاتم

علاقہ،

تاریخ کی مختلف ادوار میں تقسیم

5۔ اس دور کی کچھ اہم مذہبی تبدیلیاں کیا تھیں؟

ہمیں سمجھ لیتا چاہیے

6۔ ”ہندوستان“ اصطلاح کا مفہوم صدیوں کے عرصے میں کس طرح بدلا؟

7۔ ”ذاتوں“ کے اپنے معاملات اور حالات کس طرح طے ہوتے تھے؟

8۔ خطوں کی مجموعہ سلطنت (pan-regional empire) اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟

آئیے بات کریں

9۔ منظوظوں یا مسوہ دوں کو استعمال کرنے میں موڑخوں کے سامنے کیا کیا دشواریاں آتی ہیں؟

10۔ موڑخ ماضی کو دوروں میں کس طرح بنانٹے ہیں؟ ایسا کرنے میں کیا انھیں کچھ مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟

آئیے کچھ کریں

11۔ نقشہ 1 یا نقشہ 2 کا آج کے بر صغیر کے نقشے سے مقابلہ کریں اور ان میں جتنی یکسانیتیں ہوں اور غیر یکسانیتیں ہوں ان کی فہرست بنائیں۔

12۔ معلوم کیجیے کہ آپ کے گاؤں یا شہر میں ریکارڈز کہاں رکھے جاتے ہیں؟ کیا یہاں کوئی آرکائیو ہے؟ اس کا انتظام کون کرتا ہے؟ یہاں کس قسم کی دستاویزات رکھی جاتی ہیں؟ کون لوگ ہیں جو انھیں استعمال کرتے ہیں؟